

الاسماء الخمسة

عربی زبان میں پانچ اسماء (5) ایسے ہیں۔ جو دو حروف پہ مشتمل ہیں۔ ان کا تیسرا حرف حذف کر دیا جاتا ہے۔

In Arabic language, there are five isms which consist of two letters. Their third letter is omitted.

They are called (الاسماء الخمسة). The following are (آب) father, (أخ) brother, (أخ) father in law/ brother in law, (فم or فوه) mouth, (ذو) possessor of.

آب (باپ)، أَخ (بھائی)، حَم (دیور، خُسر)، فَم / فُو (منہ)، ذُو (والا، والی، صاحب)

الاسماء الخمسة قواعد

اسم کی تین اعرابی حالتیں مرفوع، منصوب اور مجرور کی علامات اعراب بالجوکت اور اعراب بالحرف دو طرح سے ہوتی ہیں۔

The signs of three aerabi cases of noun "nominative, accusative and genitive are of two types ie : Aerab bil Harkat and Aerab bil Harf. You have already learned the nominative case of dual. In this lesson you will learn the signs of accusative and genitive case of dual. Look at aerabi cases in the following column.

- عام طور پر الاسماء الخمسة کا اعراب "اعراب بالجوکت" ہوتا ہے۔ مگر جب ان اسماء کا واحد کا صیغہ مضاف بن کر آتا ہے تو ان کا اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ سوائے ضمیر واحد یاء (ی) متکلم کے۔

Generally, the Iraab of these nouns is اعراب بالجوکت. Only when their singular form occurs as مضاف then their Iraab is اعراب بالحرف except for مُتَكَلِّم.

- اگر الاسماء الخمسة مضاف نہ بن رہے ہوں تو وہ ان کا اعراب بالجوکت ہوتا ہے۔

When الاسماء الخمسة occur as مضاف of مُتَكَلِّم then the Iraab is اعراب بالجوکت.

- ضمیر واحد یاء (ی) متکلم کے ساتھ جب یہ اسماء جز کر مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کا اعراب حرکت کے ساتھ آتا ہے۔ (حرف سے نہیں)۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضمیر یاء (ی) متکلم سے پہلے کسرہ آنا لازمی ہے اس لیے یاء (ی) متکلم سے پہلے حرف پر کسرہ آتا ہے

But as we know that مُتَكَلِّم is always preceded by a kasrah, there shall always be a kasrah before it.

- یہ اسماء مرکب اضافی میں "اسم ظاہر" یا "ضمائر" کے ساتھ مضاف بن کر آتے ہیں۔

In a possessive compound (ضمیر) (اسم ظاہر) these Isms occur as مضاف of nouns (اسم ظاہر) as well as pronouns.

- "ذو" صرف اسم ظاہر کے ساتھ مضاف بن کر آتا ہے۔ ذومضائر کے ساتھ جڑ کر نہیں آتا۔ "ذو" ہمیشہ صرف مضاف بن کر آتا ہے۔ الگ سے نہیں آتا۔

But ذُو occurs as مضاف only of nouns and never of pronouns. ذُو always comes only as مضاف, never otherwise.

نوٹ: اسماء الخمسة جب تشنیہ اور جمع کی صورت میں مضاف بن کر آتے ہیں تو ان کے قواعد فرق ہوتے ہیں جو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاء اللہ

Note: When the **الاسماء الخمسة** occur as مضاف in their dual or plural form, they have different rules which we'll learn later.

الاسماء الخمسة إعراب بالحرف

أَبُو بَكْرٍ	أَبَا بَكْرٍ	أَبِي بَكْرٍ
أَخُو يَاسِرٍ	أَخَا يَاسِرٍ	أَخِي يَاسِرٍ
حُمُوفَاطِمَةَ	حَمَا فَاطِمَةَ	حَمِي فَاطِمَةَ
ذُو عِلْمٍ	ذَا عِلْمٍ	ذِي عِلْمٍ

الاسماء الخمسة إعراب بالحوكت

أَبٌ	أَبَا	أَبِي
الْأَبُ	الْأَبُ	الْأَبُ
أَخٌ	أَخَا	أَخِي
الْأَخُ	الْأَخُ	الْأَخُ

الاسماء الخمسة ضمائر کے ساتھ إعراب بالحوكت

أَبُوهُنَّ	أَبُوهُمَا	أَبُوهُمْ	أَبُوهُ
لَهُنَّ	لَهُمَا	لَهُمْ	لَهُ
	أَبِي	أَبُونَا	

الاسماء الخمسة آیات

﴿إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (8/12)

جب انہوں نے کہا البتہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں

بے شک ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے

When they said, "Joseph and his brother are more beloved to our father than we, while we are a clan. Indeed, our father is in clear error.

﴿إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا﴾ (78/12)

بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے

indeed he has a father [who is] an old man .

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ (82/18)

اور ان دونوں کا باپ صالح (شخص) تھا،

and their father had been righteous.

﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (1/111)

ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو جائے

May the hands of Abu Lahab be ruined, and ruined is he.